

# Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Mauritius Pravind Jugnauth to jointly inaugurate the new Supreme Court Building of Mauritius

July 28, 2020

وزیر اعظم نریندر مودی اور موریشس کے وزیر اعظم پروند جگنوتھ موریشس میں سپریم کورٹ کی نئی عمارت کا مشترکہ افتتاح کریں گے

28 جولائی، 2020

وزیر اعظم نریندر مودی اور موریشس کے وزیر اعظم پروند جگنوتھ 30 جولائی، 2020 کو جمعرات کو موریشس کی سپریم کورٹ کی نئی عمارت کا مشترکہ افتتاح کریں گے۔ اس عمارت کا افتتاح موریشس سے تعلق رکھنے والے عدلیہ کے سینئر ممبران اور دونوں ممالک کے دیگر معززین کی موجودگی میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ منعقد ہو گا۔ یہ عمارت بھارت امداد سے تعمیر کی گئی ہے۔ اور یہ کورونا کے بعد موریشس کے دار الحکومت پورٹ لوئس میں بھارت کی مدد سے بننے والا بنیادی ڈھانچے کا پہلا پروجیکٹ ہوگا۔

سپریم کورٹ کی نئی عمارت کا پروجیکٹ اُن پانچ پروجیکٹوں میں سے ایک ہے، جو حکومت ہند کی طرف سے 2016 میں موریشس کو دئے گئے 353 ملین ڈالر کے خصوصی اقتصادی پیکج کے تحت نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ متعینہ مدت اور متوقع اخراجات سے کم میں مکمل کیا گیا ہے۔ اس منزل سے زیادہ پر مشتمل یہ عمارت 4700 مربع میٹر سے زیادہ کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے، اور جبکہ اس کا بلٹ اپ رقبہ تقریباً 25000 مربع میٹر ہے۔ یہ عمارت تھرمل اور ساؤنڈ انسولیشن اور اعلیٰ توانائی بچت پر ترکیز کے ساتھ ساتھ جدید ڈیزائن اور گرین فیچرس کی نمائش کرتی ہے۔

اکتوبر 2019 میں، وزیر اعظم مودی اور موریشس کے وزیر اعظم نے مشترکہ طور پر میٹرو ایکسپریس پروجیکٹ کے فیز-1 اور موریشس میں نئے ENT اسپتال منصوبے کا افتتاح کیا تھا، جسے بھی خصوصی اقتصادی پیکج کے تحت تعمیر کیا گیا ہے۔ میٹرو ایکسپریس پروجیکٹ کے فیز 1 کے تحت، گذشتہ سال ستمبر میں 12 کلومیٹر میٹرو لائن کی تعمیر مکمل کی گئی تھی، جبکہ اس کے فیز 2 میں 14 کلومیٹر میٹرو لائن کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ ای این ٹی ہاسپٹل پروجیکٹ کے ذریعہ، بھارت نے موریشس میں 100 بستروں پر مشتمل ماڈرن ہسپتال کی تعمیر میں مدد کی۔

توقع کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ نئی عمارت شہر کے وسط میں ایک اہم مقام بن جائے گی جو دونوں ممالک کے مابین مضبوط باہمی شراکت کی علامت بنے گی۔

نئی دہلی

28 جولائی، 2020

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release